



## سوال

(227) اگر شوہر چار ماہ میں صرف ایک ہی بار ہم بستری کرے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سلام کے بعد ایک عورت کا کہنا کہ وہ اسلام میں عورت کے حقوق کے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے سوال یہ ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی سے چار ماہ بعد ہی ہم بستری کرے اور یہ عورت کی رغبت کو پورا نہ کرنا ہو تو کیا اسلام میں اس کا کوئی حل ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

- بلاشبہ یہ فعل غلط ہے اور معاشرت زوجیت کے بھی خلاف ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے -

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۱۹ ... سورة النساء

"اور تم ان (عورتوں) کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔"

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے -

وَلْتَنكِحُوا الْمَرْءَ الَّذِي تُلَقِّبُونَ بِالْمَعْرُوفِ ۲۲۸ ... سورة البقرة

"اور ان (عورتوں) کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان (مردوں) کے ہیں اچھے اور احسن انداز میں۔"

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے -

"تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ (صحیح الصحیحہ 285 - صحیح الجامع 3314 - ترمذی 3895 - کتاب المناقب باب فضل ازواج النبی واری - 159/2)

اس بنا پر خاوند پر واجب ہے کہ اپنی بیوی سے اس طرح معاشرت اختیار کرے جو اس کی ضرورت اور خواہش پوری کر سکتی ہو۔ یہ کوئی معاشرت نہیں کہ بیوی سے اتنی مدت تک علیحدگی اختیار کی جائے جو چار ماہ تک جا پہنچے اور پھر اگر عورت تکلیف محسوس کرتی ہے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ فسخ نکاح کا مطالبہ کرے۔ (شیخ محمد المنجد)



هدى ما عندي والنداء علم بالصواب

## فتاویٰ نکاح و طلاق

ص 292

محدث فتویٰ